



## Noble Quran      القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ

الف۔ لام۔ میم۔

اللَّهُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ

اللہ! اس کے سوابندگی نہیں، جیتا ہے سب کا تھامنے والا۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

اتاری تجھ پر کتاب تحقیق، ثابت کرتی اگلی کتابوں کو اور اتاری تھی توریت اور انجلی۔

فَإِنَّمَا مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنَّزَلَ الْفُرْقَانَ

اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کو، اور اتارا انصاف۔

إِنَّ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا أُبَيَّأَيَتِ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں سے ان کو سخت عذاب ہے۔

.1

.2

.3

.4

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اُنْتِقَامٍ

اور اللہ زبردست ہے بد لہ لینے والا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

.5  
اللہ اس پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں۔

هُوَ الَّذِي يُصْوِرُ كُمْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ

.6  
وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے بیٹ میں، جس طرح چاہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيتَتْ حُكْمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ

.7  
وہی ہے جس نے اتاری تجوہ پر کتاب، اس میں بعضی آیتیں پکی (مکملات) ہیں، سو جڑ (بنیار) ہیں کتاب کی،

وَأُخْرُ مُتَشَبِّهَاتٌ

اور دوسری ہیں کئی طرف ملتی (تشابہات)،

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَجُغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ أَبْيَغَاءُ الْفِتْنَةِ وَأَبْيَغَاءَ تَأْوِيلِهِ

سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، وہ لگتے (بیچھے پڑے) ہیں ان کی ڈھب والیوں سے (تشابہ کے)،

تلاش کرتے ہیں مگر اہی، اور تلاش کرتے ہیں انکی گل بیٹھانی (حقیقت و مہیت)،

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

اور ان کی گل (حقیقت و مہیت) کوئی نہیں جانتا سو اللہ کے،

٤  
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّا بِهِ مُكْلِّفٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

اور جو مضبوط علم والے ہیں، سو کہتے ہیں، ہم اس پر تینیں لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

وَمَا يَذَّكِّرُ إِلَّا وُلُوًّا أَلَّا لَبِّ

اور سمجھائے وہی، سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔

رَبَّنَا الَّتِيْنِيْ غُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّذْنَكَ رَحْمَةً

اے رب ہمارے دل نہ پھیر، جب ہم کو ہدایت دے چکا، اور دے ہم کو اپنے ہاں سے مہربانی،

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

تو ہی ہے سب دینے والا۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبٌ فِيهِ

اے رب! تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، جس میں شبہ نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْجِلِفُ الْمِيعَادَ

بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدہ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَدُهُمْ مِنَ الَّذِينَ شَيَّأَ

جو لوگ منکر ہیں، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد، اللہ کے آگے کچھ۔

وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ

وہی ہیں چھپٹیاں (ابند ھن) دوزخ کی۔

.8

.9

.10

كَدَأْبٌ إِلَيْهِ فَرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جیسے دستور فرعون والوں کا، اور جوان سے پہلے تھے،

كَذَّبُوا أَبِي آيَتِنَا فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

جھٹلاتے ہماری آئیں، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر،

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور اللہ کی مار سخت ہے۔

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَسْتَغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ

کہہ دے منکروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کو۔

وَإِنَّسَ أَمْهَادُ

اور کیا بڑی تیاری ہے۔

قُدْكَانَ لِكُمْ إِيمَانُكُمْ فِي فَتَنَّنِ الْتَّقَاتِ

ابھی ہو چکا ہے تم کو ایک نمونہ (نشانی)، دو فوجوں میں جو بھڑی (نبر و آزم) تھیں۔

فِتَّةٌ تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرَى كَافِرَةٌ

ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری منکر ہے،

يَرَوْهُمْ مِثْلِيهِمْ هَرَامَى الْعَيْنِ

یہ ان کو دیکھتے ہیں اپنے دو برابر (دو گنا)، صریح (کھلی) آنکھوں سے،

وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ

اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔

إِنَّ فِي ذَلِيلَكَ لِعِبْرَةً لِأُولَى الْأَبْصَرِ

اسی میں خبردار ہو جائیں جن کو (دوراندیشی کی) آنکھ ہے۔

رُّبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَتَّينَ

رجھایا ہے لوگوں کو مزدوں کی محبت پر، عورتیں، اور بیٹیں،

وَالْقَنْطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَالْفِضَّةِ

اور ڈھیر جوڑے ہوئے سونے کے، اور روپے کے،

وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَثِ

اور گھوڑے پلے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔

ذَلِيلٌ مَتَّعٌ الْحَيَاةَ الْدُنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْحَابِ

یہ بر تنا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ جو ہے اس پاس ہے اچھا ٹھکانا۔

قُلْ أَوْنِبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِيلٍ

تو کہہ، میں بتاؤں تم کو اس سے بہتر؟

لِلَّذِينَ اتَّقُوا اَعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا

پرہیز گاروں کو اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جنکے نیچے بہتی ندیاں، رہ پڑے انہی میں،

.14

.15

وَأَزُواجٌ مُّظَهَرٌ وَرُضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ

اور عورتیں ہیں ستری، اور رضامندی اللہ کی۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

اور اللہ کی نکاح میں ہیں بندے۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَاءٌ فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

.16

وہ جو کہتے ہیں، اے رب ہمارے!

ہم لیقین لائے ہیں، سو بخش ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔

الصَّدِيرِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَابِ

.17

وہ محنت اٹھانے والے اور سچے۔ اور بندگی میں لگے رہتے اور خرچ کرتے اور گناہ بخشواتے، پچھلی رات کو  
(آخری پھر)۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

.18

اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، وہی حاکم انصاف کا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کسی کو بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے، حکمت والا۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَمُ

.19

دین جو ہے اللہ کے ہاں، سو یہی مسلمانی حکم برداری (اسلام)۔

وَمَا أُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد سے۔

وَمَن يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور جو کوئی منکر ہو اللہ کے حکموں سے تو اللہ شتاب (جلدی) لینے والا ہے حساب۔

فَإِنْ حَاجُوكُنَّ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

پھر جو تجھ سے جھگڑیں تو کہہ،

میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور (انہوں نے بھی) جو کوئی میرے ساتھ ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمَمِينَ إِذَا سَلَمْتُمْ

اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تابع ہوتے (اسلام لاتے) ہو؟

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

پھر اگر تابع ہوئے (اسلام لائے) تو راہ پر آئے۔ اور اگر ہٹ رہے تو تیرا ذمہ یہی ہے پہنچادینا۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے (اعمال بندوں کے)۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ

جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں سے اور مارڈا لتے ہیں نبیوں کو ناحق،

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اور مارڈا لتے ہیں جو کوئی کہے انصاف کو لوگوں میں سے، سوان کو خوش خبری سناد کھو والی مار (عذاب) کی۔

.20

.21

.22

**أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطُتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ يَوْمَ الْحِسْبَانِ**

وہی ہیں جن کی محنت (اعمال) ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مدد گار۔

.23

**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ**

ٹونے نہ دیکھے وہ لوگ جن کو ملا ہے کچھ ایک حصہ کتاب کا،

**يُدْعَونَ إِلَى الْكِتَابِ اللَّهُ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعَرِّضُونَ**

ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب پر کہ ان میں حکم کرے، پھر ہٹ رہتے ہیں بعضے ان میں تغافل کر کر۔

.24

**ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا أَلْثَامُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ**

یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں ہم کو ہر گز نہ لگے کی آگ (دوزخ کی) مگر کئی (چند) دن گنتی کے۔

**وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَنُونَ**

اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔

.25

**فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا يَرِبِّبُ فِيهِ**

پھر کیسا ہو گاجب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن، جس میں شبہ نہیں۔

**وَوَفَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کا حق نہ رہے گا۔

.26

**قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ**

تو کہہ، یا اللہ مالک سلطنت کے!

تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنِعِّمُ الْمُلْكَ لِمَن تَشَاءُ

تو سلطنت دے جس کو چاہے، سلطنت چھین لے جس سے چاہے،

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ

اور عزت دے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے،

بِإِدْلِكَ الْجَيْهَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تیرے ہاتھ سب خوبی (خیر)، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

تُوجِّهُ الْيَلَ فِي أَنَّهَا إِرْ وَتُوجِّهُ الْنَّهَايَةِ فِي الْيَلِ

تلے آئے (داخل کرے) رات کو دن میں اور تلے آئے (داخل کرے) دن کورات میں،

وَتُخْرِجُ الْحَسَنَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَسَنِ

اور تو نکالے جیتا (جاندار) مردے سے اور تو نکالے مردہ جیتا (جاندار) سے،

وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور تورزق دے جس کو چاہے بیشمار۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفَرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ

نه پکڑیں (بنائیں) مسلمان کافروں کو رفیق مسلمان چھوڑ کر۔

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً

اور جو کوئی یہ کام کرے، وہ اللہ کا کوئی نہیں، یہ کہ تم پکڑا چاہو ان سے بچاؤ۔

.27

.28

وَيَحْذِرُكُمْ أَنَّ اللَّهَ نَفْسُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ

اور اللہ تم کو ڈراتا ہے آپ (اپنی ذات) سے۔ اور اللہ ہی تک پہنچنا (لوٹ کر جانا) ہے۔

قُلْ إِنَّمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدِّلُهُ يَعْلَمُ اللَّهُ

تو کہہ، اگر تم چھپا گے اپنے جی کی بات یا ظاہر کرو گے، وہ اللہ کو معلوم ہے،

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ

اور اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

يَوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ لَّهُ حَضْرًا وَمَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ

جس دن پائے گا ہر شخص جو کی ہے نیکی روبرو۔ اور جو کی ہے برائی۔

تَوَدَّلُواْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ أَمْدًا بَعِيدًا

آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس (کی بدی) میں فرق پڑھ جائے ڈور کا۔

وَيَحْذِرُكُمْ أَنَّ اللَّهَ نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

اور اللہ ڈراتا ہے تم کو آپ (اپنی ذات) سے۔ اور اللہ شفقت رکھتا ہے بندوں پر۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُمْ

تو کہہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تیرمیری را چلو کہ اللہ تم کو چا ہے اور بخشنے گناہ تمہارے۔

.29

.30

.31

وَاللَّهُغَفُورُرَّحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا،

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفَرِينَ

پھر اگر وہ ہٹ رہیں تو اللہ نہیں چاہتا منکروں کو۔

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَافَى آدَمَ وَنُوحًا وَأَهْلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَهْلَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو، سارے جہان سے۔

ذِرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی،

وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأٌ عِمَرَانَ رَبِّيْ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ لَحْرَرَ افَتَقَبَّلُ مِنِّيْ

جب بولی عورت عمران کی، کہ اے رب!

میں نے نذر کیا تیری جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد (ہو گا تیرے نام پر) سو تو مجھ سے قبول کر۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تو ہے اصل سنتا جانتا۔

.32

.33

.34

.35

فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْشَى

پھر جب اس کو جنی (پیدا کیا)، بولی، اے رب! میں نے یہ لڑکی جنی۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ اللَّهُ كُوْنَ أَلْأَنْشَى

اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ جنی۔ اور (کوئی) بیانہ ہو جیسے وہ بیٹی۔

وَإِنِّي سَمِّيَتُهَا مَرْيَمٍ وَإِنِّي أَعِدُّهَا لَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الْشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسکو اور اسکی اولاد کو شیطان مردود سے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا إِبْرَهِيلٌ حَسَنٌ وَأَنْبَتَهَا إِبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا

پھر قبول کیا اسکو اسکے رب نے، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اسکو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کیا زکریا کو۔

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

جس وقت آتا اس پاس زکریا حجرے میں، پاتا اس پاس کچھ کھانا،

قَالَ يَمْرُرْيُمْ أَنِّي لَكِ هَذَا

بولا، اے مریم! کہاں سے آیا تجھ کو یہ؟

قَالَتْ هُوَ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ

کہنے لگی، یہ اللہ کے پاس سے۔

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس (حساب)۔

هُنَالِكَ دَعَازَ كَرِيَّا رَبَّهُ<sup>صَلَّى</sup>

وہاں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔

قَالَ رَبِّهِبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الْدُّعَاءِ<sup>صَلَّى</sup>

کہا، اے رب میرے! عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پا کیزہ، بیشک تو سننے والا ہے دعا۔

فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى<sup>صَلَّى</sup>

پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، جب وہ کھڑا تھا نماز میں حجرے کے اندر،

کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحیٰ کی،

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَنِيَّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ<sup>صَلَّى</sup>

جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، پھر سردار ہو گا اور عورت پاس نہ جائے گا، اور نبی ہو گا نیکوں میں۔

قَالَ رَبِّهِ أَنِّي أَيُّكُونُ لِيْ غَلَمَّ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِيْ عَاقِرُ<sup>صَلَّى</sup>

بولا، اے رب! کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا؟ اور مجھ پر آیا بڑھا پا اور عورت میری بانجھ ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ<sup>صَلَّى</sup>

فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

قَالَ رَبِّهِ أَجْعَلْ لِيْ إِيمَانَهُ<sup>صَلَّى</sup>

بولا، اے رب! مجھ کو دے کوئی نشانی۔

قَالَ إِيَّشُوكَ أَلَّا تَكِلِمَ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا<sup>صَلَّى</sup>

کہا، نشانی تیری یہ کہ نہ بات کرے تو لوگوں سے تین دن، مگر اشارت سے۔

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشْرِيْ وَالْإِلْبَكَرِ

اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح۔

.42

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمَرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنِي وَطَهَرَنِي وَأَصْطَفَنِي عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

جب فرشتے ہو لے،

اے مریم! اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستر ابنا یا، اور پسند (بر گزیدہ) کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں سے۔

.43

يَمَرِيْمُ أَقْتُنْتِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدْنِي وَأَنْزَعْ كَعِيْ مَعَ الْرَّاكِعِينَ

اے مریم! بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر، اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

.44

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيْكَ

یہ خبریں غیب کی ہیں ہم سمجھتے ہیں تجھ کو۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ

اور تو نہ تھاں کے پاس، جب ڈالنے لگے اپنے قلم (قرعہ اندازی کے لئے) کہ کون پالے مریم کو؟

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

اور تو نہ تھاں کے پاس جب جھگڑتے تھے۔

.45

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمَرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ لِكَ بِكَلْمَةٍ مِنْهَا سُمْهُ الْمُسِيْحُ عِيسَى اُبْنُ مَرِيْمَ

جب کہا فرشتوں نے، اے مریم!

اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا،

وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

مرتبے والا دنیا میں، اور آخرت میں، اور نزدیک والوں میں۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ

اور بتیں کرے گا لوگوں سے جب ماں کی گود میں ہو گا، اور جب پوری عمر کا ہو گا اور نیک بختوں میں ہے۔

قَالَ رَبِّي أَنِّي كُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

بولی، اے رب! کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا؟ اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

کہا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے،

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

جب حکم کرتا ہے ایک کام کو، تو یہی کہتا ہے اسکو کہ 'ہو' وہ ہو جاتا ہے۔

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَّوْرَلَةُ وَالْإِنجِيلُ

اور سکھادے گا اس کو کتاب اور کام کی بتیں، اور توریت اور انجیل۔

وَرَسُولًا إِلَى ابْنِ إِسْرَائِيلَ أَنِّي قُدُّسُكُمْ بِمَا يَأْتِي مِنِّي مِنْ رَبِّكُمْ

اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف، کہ میں آیا ہوں تم پاس نشان لے کر تمہارے رب کا،

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الظِّئِنِ كَهْيَةَ الْطَّيْرِ فَأَنْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ

کہ میں بنادیتا ہوں تم کو مٹی کی صورت جانور کی،

پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو وہ ہو جائے اُڑتا جانور اللہ کے حکم سے،

.46

.47

.48

.49

وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُجِيَ الْمُوْتَىٰ إِلَيْنَا رَبُّنَا

اور چنگا (تند رست) کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو، اور کوڑھی،

اور جلاتا (زندہ کرتا) ہوں مُردے، اللہ کے حکم سے،

وَأَنِسِنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُيوْتِكُمْ

اور بتادیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور کھپاؤ اپنے گھر میں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اس میں نشانی پوری ہے تم کو، اگر تم یقین رکھتے ہو۔

ج

وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ منْ أَلْتَوَرَلَةٍ وَالْأَحَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

اور سچ بتاتا ہوں تورات کو جو مجھ سے پہلے کی ہے،

اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی چیز، جو حرام تھی تم پر،

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

اور آیا ہوں تم پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرواللہ سے اور میرا کہا مانو۔

إِنَّ اللَّهَ هُرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سواس کی بندگی کرو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

یہ سیدھی را ہے۔

.50

.51

فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفَرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ  
ص

بھرجب معلوم (محسوں) کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا گفر، بولا، کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِإِيمَانِنَا مُسْلِمُونَ

کہا حواریوں نے، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے،

ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔

رَبَّنَا آءَنَا إِمَّا أَنْزَلْتَ وَآتَيْنَا الْرَّسُولَ فَأَكُوْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ

اے رب! ہم نے یقین کیا جو تو نے اُتارا، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو لکھ لے ہم کو مانے والوں میں۔

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ  
ص

اور فریب کیا (چال چلی) ان کافروں نے اور فریب کیا (چال چلی) اللہ نے،

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكَرِّينَ

اور اللہ کاداؤ (کی چال) سب سے بہتر ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيٌّ وَرَأْفَعُكَ إِلَى اللَّهِ وَمُطَهِّرٌ مِّنَ الظَّنِينَ كَفَرُوا

جس وقت کہا اللہ نے، اے عیسیٰ!

میں تجھ کو بھرلوں (وابس لے لوں) گا، اور اٹھالوں گا اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا کافروں سے،

وَجَاءَكُلُ الظَّنِينَ أَتَبْعُوكَ فَوْقَ الظَّنِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
ص

اور کھوں گا تیرے تابوں کو اوپر منکروں سے قیامت کے دن تک۔

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

پھر میری طرف ہے تم کو پھر (لوٹ) آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ .56

سو وہ جو کافر ہوئے، ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب، دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں انکامد گار۔

وَأَمَّا الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّىٰهُمْ أُجُورُهُمْ .57

اور وہ جو یقین لائے، اور عمل نیک کئے سوان کو (اللہ) پورا دے گا انکا حق۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

اور اللہ کو خوش (پسند) نہیں آتے بے انصاف۔

ذَلِكَ تَقْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَّتِ وَاللَّهُ كَرِيمٌ .58

یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں، اور مذکور تحقیق (تذکرہ حکمت والا)۔

صَلَّى

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ إِادَمَ

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے مثال آدم کی،

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو 'ہو جا'، وہ ہو گیا۔

الْحُقْقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَنَّينَ .60

حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر تو رہ مت شک (کرنے والوں) میں۔

.61

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

پھر جو جھگڑا کرے تجھ سے اس بات میں بعد اس کے کہ پہنچ چکا تجھ کو علم،  
فَقُلْ تَعَالَوْ أَنْدُعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ

تو شو کہہ آؤ! بلا میں

ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان۔

ثُمَّ نَبَّهِ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ

پھر دعا (مبارکہ، دعائے بد) کریں، اور لعنت ڈالیں اللہ کی جھوٹوں پر۔

.62

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصْصُ الْحُقْقُ

یہ جو ہے سو یہی ہے بیان تحقیق (حق)،

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

اور کسی کی بندگی نہیں سوال اللہ کے،

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔

.63

فَإِنْ تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ

پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے۔

.64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ أَإِنَّ كَلِمَةَ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

تو کہہ، اے کتاب والو! آؤ ایک سیدھی بات پر (جو یکساں ہے) ہمارے تمہارے درمیان کی،

أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

کہ بندگی نہ کریں گے مگر اللہ کو، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کی کوئی چیز،

وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کورب، سوال اللہ کے۔

فَإِن تَوَلُّوْ أَفْقُولُوا أَشْهَدُوا أَبِانًا مُسْلِمًا

پھر اگر وہ قول نہ رکھیں تو کہہ، شاہد ہو، کہ ہم تو (صرف اللہ کے) حکم کے تابع ہیں۔

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيمَ

اے کتاب والو! کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم پر؟

وَمَا أُنْزَلَتِ الْتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ

اور توریت اور انجلیل تو اتریں اس کے بعد،

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کیا تم کو عقل نہیں؟

هَأَنْتُمْ هُؤُلَاءِ حَجَجُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

تم لوگ جھگڑچکے، جس بات میں تم کو خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو، جس بات میں تم کو خبر نہیں؟

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔

.65

.66

.67

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا  
نہ تھا بر اہیم یہودی، اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا ایک طرف کا حکم بردار۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
اور نہ تھا شرک والا۔

.68

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا الَّذِي وَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا  
لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی، جو ساتھ اسکے تھے، اور اس نبی کو اور ایمان والوں کو۔  
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  
اور اللہ والی (ساتھی) ہے مسلمانوں کا۔

.69

وَذَّتِ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ  
آرزو ہے بعض کتاب والوں کو، کسی طرح تم کو راہ بھلا کیں،  
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  
اور راہ بھلاتے ہیں مگر آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔

.70

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِإِبْرَاهِيمَ  
اے کتاب والو! کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے؟  
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ  
اور تم قائل ہو۔

يَأَهْلَ الْكِتَبِ لَمْ تَلِسُونَ الْحُقْقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُثُّمُونَ الْحُقْقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے کتاب والو! کیوں ملاتے ہو صحیح میں غلط اور چھپاتے ہو سچی بات کو جان کر۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ

اور کہا ایک لوگوں نے اہل کتاب میں،

ءَامِنُوا بِإِلَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ اللَّهَارِ وَأَكْفُرُو أَعْلَمُ بِآخِرَةٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

کہ مان لو جو کچھ اُڑا مسلمانوں پر دن چڑھے (صحیح کو)، اور منکر ہو جاؤ آخر دن (رات کو)،

شاید وہ پھر جائیں (اپنے دین سے)۔

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ

اور یقین کریو مگر اسی کا جو چلے تمہارے دین پر۔

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ

تو کہہ، ہدایت وہی جو ہدایت کرے اللہ،

أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ

اس واسطے کہ کسی کو ملا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا مقابلہ کیا تم سے تمہارے رب کے آگے۔

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

تو کہہ، بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ گنجائش والا ہے خبردار۔

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے۔ اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِدُهُ إِلَيْكَ

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہے کہ اگر تو اس پاس امانت رکھے ڈھیر مال، ادا کرے تجھ کو،

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَاهُ لَا يُؤْدِدُهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

اور بعض ان میں وہ ہے، اگر تو اس پاس امانت رکھے ایک اشرفتی، ادانہ کرے تجھ کو،

مگر جب تک تو رہے اسکے سر پر کھڑا۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ مِنْ سَبِيلٍ

یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، نہیں ہم پر جاہلوں کے حق کا گناہ۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور جھوٹ بولنے ہیں اللہ پر جانتے (جان بوجھ کر)۔

بَلِّي مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَقِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

کیوں نہیں! جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور پرہیز گار ہے، تو اللہ چاہتا ہے پرہیز گاروں کو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَكْنِيهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

جو لوگ خرید کرتے ہیں اللہ کے اقرار پر، اور اپنی قسموں پر تھوڑا مول، اور انکو کچھ حصہ نہیں آخرت میں،

وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ

اور نہ بات کریگا اُن سے اللہ، اور نہ نگاہ کرے گا انکی طرف قیامت کے دن،

اور نہ سنوارے (پاک کرے) گا ان کو،

وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان کو دکھ کی مار (دردناک عذاب) ہے۔

.78

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ

اور ان میں ایک لوگ ہیں کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کہ تم جانو وہ کتاب میں ہے،

اور وہ نہیں کتاب میں۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے، اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر۔

.79

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکم اور پیغمبر کرے،

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا إِلَيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

پھر وہ کہے لوگوں کو تم میرے بندے ہو اللہ کو چھوڑ کر،

وَلَكِنْ كُوْنُوا أَرَبَّنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ

لیکن تم ربی (اللہ والے) ہو جاؤ، جیسے تھے تم کتاب سکھاتے، اور جیسے تھے تم پڑھتے۔

وَلَا يَأْمُرُ كُمْ أَن تَتَّخِذُوا أُمُلْكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا

اور نہ یہ کہے تم کو، کہ ٹھہر اور فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔

أَيَّاً مُرْكُمْ بِإِلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

کیا تم کو گفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکو۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم،

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

پھر آئے تم پاس کوئی رسول، کہ سچ بتائے تمہارے پاس والی کو، اس پر ایمان لاوے گے، اور اسکی مدد کرو گے۔

قَالَ إِنَّا أَقْرَرْنَا ثُمَّ وَأَخَذْنَا عَلَى إِذْ لَكُمْ إِصْرِي

فرمایا، کہ تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر لیا میراذمہ؟

قَالُوا أَقْرَرْنَا

بولے، ہم نے اقرار کیا۔

قَالَ فَأَشْهِدُو أَوْ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ

فرمایا، تواب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔

فَمَنْ تَوَلَّ إِبْرَهِيلَكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

پھر جو کوئی پھر جائے اسکے بعد، تو وہی لوگ ہیں بے حکم (نافرمان)۔

أَفْغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ

اب کچھ اور دین ڈھونڈتے ہیں سوادِ دین اللہ کے،

وَلَمَّا أَسْلَمَ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَّعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا زور سے،

اور اسی کی طرف پھر (لوٹائے) جائیں گے۔

فُلُءَ اَمَّا بِاللَّهِ وَمَاً اُنْزِلَ عَلَيْنَا

تو کہہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتر اہم پر،

وَمَاً اُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

اور جو کچھ اتر ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحق پر اور یعقوب پر، اور اس کی اولاد پر،

وَمَاً أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

اور جو ملاموں کو، اور عیسیٰ کو، اور جو ملاسب نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے،

لَا نُنَفِّرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو اور اس کے حکم پر ہیں۔

وَمَنْ يَتَّبَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

اور جو کوئی چاہے سوا حکم برداری (اسلام) کے اور دین، سواس سے ہرگز قبول نہ ہو گا،

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَسِيرِينَ

اور وہ آخرت میں خراب (خسارہ پانے والوں میں) ہے۔

.86

ج  
کَيْفَ يَهُدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الَّرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
کیوں کراہ دیگا اللہ ایسے لوگوں کو کہ منکر ہو گئے مان کر، اور بتاچکے کہ رسول سچا ہے، اور پہنچ چکے انکو نشان۔

وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

.87

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  
ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ کی، اور فرشتوں کی، اور لوگوں کی سب کی۔

.88

خَلِيلِينَ فِيهَا لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

پڑے رہیں اس (لعنت) میں، نہ ملکا ہو ان پر عذاب، اور نہ ان کو فرصت (مهلت) ملے۔

.89

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا أَفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور سنوار پکڑی (اصلاح کر لی اپنی)، تو البتہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

.90

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا لَنْ يُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو لوگ منکر ہوئے مان کر، پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہو گی ان کی توبہ،

اور وہی ہیں راہ بھولے (گراہ)۔

.91

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْأَدُهُمْ كُفَّارٌ

جو لوگ منکر ہوئے، اور مر گئے منکر ہیں،

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَهُ بِهِ

تو ہرگز قبول نہ ہو گا ایسے کسی سے، زمین بھر کر سونا، اگرچہ بد لہ دے یہ کچھ۔

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ

ان کو دکھ کی مار (دردناک عذاب) ہے، اور کوئی نہیں ان کا مدد گار۔

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا أَمْمَاتُحِبُّونَ

ہر گز نہ پہنچو گے نیکی کی حد کو، جب تک نہ خرچ کرو کچھ ایک، جس سے محبت رکھتے ہو۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اور جو چیز خرچ کرو گے، سوال اللہ کو معلوم ہے۔

مُلْكُ الْطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، بنی اسرائیل کو،

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نُفُسِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّوْرَةُ

مگر جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے اپنی جان پر توریت نازل ہونے سے پہلے۔

قُلْ فَأُتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

تو کہہ لا تو توریت اور پڑھو اگر سچ ہو۔

فَمَنْ أَفْتَرَسَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

پھر جو کوئی باندھے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بے انصاف (ظام)۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ

تو کہہ سچ فرمایا اللہ نے،

.92

.93

.94

.95

فَاتِّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے، جو ایک طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شرک کرنے والا۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ

تحقیق پہلا گھر (عبادت گاہ) جو ٹھہرالوگوں کے واسطے، یہی ہے جو کمکہ میں ہے،

مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

برکت والا اور نیک را جہان کے لوگوں کو۔

صَلَوةٌ

فِيهِءَايَتُ بَيْتٍ مَقَامٌ إِبْرَاهِيمَ

اس میں نشانیاں ظاہر ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ (مقام) ابراہیم کی۔

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَ اَمِنًا

اور جو اسکے اندر آیا اسکو امن ملا۔

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا، جو کوئی پائے اس تک راہ۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

اور جو کوئی منکر ہوا، تو اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

تو کہہ اے اہل کتاب! کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے؟

.96

.97

.98

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

اور اللہ کے رو برو ہے جو کرتے ہو۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءاْمَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجَاءً وَأَنْتُمْ شُهَدٌ آءُ

تو کہہ اے اہل کتاب!

کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والے کو، ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، اور تم خبر رکھتے ہو۔

وَمَا أَنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا

إِنْ تُطِيعُوْ أَفْرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْ كُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كُفَّارِيْنَ

اے ایمان والو! اگر تم مانو گے بعضے اہل کتاب کی بات تو پھر کر دیں گے تم کو ایمان لائے پیچھے منکر۔

وَكَيْفَ تَكُفُّرُوْنَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ءاْيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ

اور تم کس طرح منکر ہو؟ اور تم پر پڑی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے۔

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، وہ پہنچا سیدھی راہ پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلِهِ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا۔

.99

.100

.101

.102

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

اور نہ مرنیو گر مسلمان۔

.103

وَأَعْتَصِمُ بِإِجْبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَرْ قُوًّا

اور مضبوط پکڑو رسم اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب تھے تم آپس میں دشمن۔

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا

پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا

اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے خلاص کیا (بچالیا)۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِيمَانِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر نشانیاں اپنی، شاید تم راہ پاؤ۔

.104

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور چاہیئے کہ رہیں تم میں ایک جماعت بلا تے نیک کام پر اور حکم کرتے پسند بات کو اور منع کرتے ناپسند کو۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور وہی پہنچے مراد کو۔

.105

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْرَبُوا أَوْ أَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ<sup>ج</sup>

اور مت ہوان کی طرح جو پھوٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اسکے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف۔

وَأُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

.106

يَوْمَ تَبَيَّنُونَ وَجْهُوكُمْ وَتَسْوَدُ وَجْهُوكُمْ<sup>ج</sup>

جس دن سفید ہوں گے بعضے منه اور سیاہ ہوں گے بعضے منه،

فَإِنَّمَا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُو قُوَّا الْعَذَابَ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ  
سو وہ جو سیاہ ہوئے منه ان کے آیاتم کا فر ہو گئے ایمان میں آکر، اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔

.107

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُتْ وَجْهُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

اور وہ جو سفید ہوئے منه ان کے سورحمت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں رہ پڑے۔

.108

تِلْكَءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُقْقِ<sup>ج</sup>

یہ حکم ہیں اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجوہ کو تحقیق۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

اور اللہ ظلم نہیں چاہتا جہاں والوں پر۔

.109

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ<sup>ج</sup>

اور اللہ کامال ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اللہ تک رجوع ہے ہر کام کی۔

كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أُخْرِ جِبْلٍ لِلنَّاسِ

.110

تم ہو بہتر سب امتوں سے جو پیدا ہوئے ہیں لوگوں میں،

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

حکم کرتے ہو پسند بات پر، اور منع کرتے ہو ناپسند سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

وَلَوْءَ إِيمَانَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

اور اگر ایمان میں آتے اہل کتاب تو ان کو بہتر تھا۔

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ أَفْسَقُونَ

کوئی نہیں ان میں ایمان پر، اور اکثر وہ بے حکم ہیں۔

لَنْ يُصْرُّوْكُمْ إِلَّا أَذَّى صَلَطٌ

.111

وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، مگر ستان۔

وَإِنْ يُقَتِّلُوْكُمْ يُولُوْكُمْ الْأَذَّبَارَ ثُمَّ لَا يُنَصَّرُوْنَ

اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ دیں گے۔ پھر ان کو مدد نہ ہو گی۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْدِلْلَةُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ

.112

ماری گئی ہے ان پر ذلت، جہاں دیکھئے، سوائے دست آویز (پناہ میں) اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے،

وَبَآءُو بِغَصَّبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ

اور کمالاً غصہ اللہ کا اور ماری ہے ان پر محتاجی۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَيْكُفِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

یہ اس واسطے کہ وہ رہے ہیں منکر اللہ کی آیتوں سے اور مارتے ہیں نبیوں کو ناحق۔

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

یہ اس سے کہ وہ بے حکم ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں۔

لَيْسُوا أَسَوَّاءً

.113

وَهُنَّ بِرَبِّنِيَّہِ،

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّلَوَنَّ إِذَا يَرَوْنَ رَبَّنِيَّہَ إِلَيْهِمْ يَسْجُدُونَ

اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سید ہی راہ پر، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

.114

یقین لاتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن (آخرت) پر،

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

اور حکم کرتے ہیں پسند (نیک) بات کو اور منع کرتے ہیں ناپسند (برے کام) سے اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر۔

وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

اور وہ لوگ نیک بختوں میں ہیں۔

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفِّرُوهُ

اور جو کریں گے نیک کام، سونا قبول نہ ہو گا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ

اور اللہ کو خبر ہے پر ہیز گاروں کی۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَدُهُمْ مِنَ الَّذِي شَيَّأُ

اور وہ لوگ جو منکر ہیں ان کو کامنہ آئیں گے اُن کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ

اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں،

هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

وہ اس میں رہ پڑے۔

مَثُلُّ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحُبُّوَةِ الْدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرْ

جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اسکی مثال جیسے ایک باوہ (ہوا)،

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلْمًا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

اس میں پالا (سردی)، وہ مار گئی کھیتی ایک لوگوں کی جنہوں نے اپنے حق میں بُرا کیا تھا، پھر اسکو نابود کر گئی،

وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

يَأَيُّهَا أَكَلِيلَنَّ يَنْ ءَامِنُوا لَا تَتَحَذَّدُو أَبْطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

اے ایمان والو! نہ ٹھہراؤ بھیدی اپنے غیر کو، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔

وَذُو أُمَّا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفُوَاهِهِمْ

ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے۔

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

اور جو چھپا ہے ان کے جی (سینے) میں سواس سے زیادہ،

قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمْ الْآيَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

ہم نے جتنا (بتا) دیئے تم کو پتے (نشانیاں)، اگر تم کو عقل ہے۔

هَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

سننے ہو؟ تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔

وَإِذَا الْقَوْكُمْ قَالُوا إِمَّا

اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔

وَإِذَا أَخَلُوا أَعْصُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ

اور جب اکیلے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں دشمنی سے۔

قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِنِكُمْ

تو کہہ، مرد تم اپنی دشمنی میں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اللہ کو معلوم ہے جیوں (سینوں) کی بات۔

إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا

اگر تم کو ملے کچھ بھلائی بڑی لگے ان کو اور اگر تم پر پہنچے برائی خوش ہوں اس سے۔

وَإِنْ تَصِبُّوْا وَتَقْوُا لَا يُصْرِكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

اور اگر تم ٹھہرے رہو اور پختے رہو کچھ نہ بگزے گا تمہارا ان کے فریب سے،

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ لَحِيطُ

جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلَكَ تُبُوّعِ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ

اور جب فجر (صح سویرے) کو نکلا تو اپنے گھر سے بھانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

إِذْ هَمَّتْ طَأْبِقَاتِنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَوْ اللَّهُ وَلِيَهُمَا

جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں کہ نامر دی (بزدلی) کریں، اور (حالات کے) اللہ مددگار تھا ان کا۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوْكِلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسا کریں مسلمان۔

.120

.121

.122

وَلَقَدْ نَصَرَ كُمْ أَلْلَهُ بِإِنْدِرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَةٌ

اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی جنگ میں، اور تم بے مقدور (کمزور) تھے۔

فَاتَّقُوا أَلْلَهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

سوڈرتے رہو اللہ سے شاید تم احسان مانو۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةَ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو،

کیا تم کو کفایت نہیں کہ تمہاری مدد بھیجے رب تمہارا، تین ہزار فرشتے آسمان سے اترے (ہوئے)۔

وَأُوتَّقُوا وَيَأْتُوْكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا إِنْ تَصْبِرُوْبَلَى

البتہ اگر تم ٹھہرے (ثبت قدم) رہو اور پرہیز گاری کرو، اور وہ آئیں (دشمن) تم پاس اُسی دم (اچانک)،

يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

تم د بھیجے تمہارا رب، پانچ ہزار فرشتے، پلے ہوئے گھوڑوں پر۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلَتَطَمِّنَ قُلُوبَكُمْ بِهِ

اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تا تسلکیں ہو تمہارے دلوں کو۔

وَمَا أَنَّصَرْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

اور مدد ہے نری اللہ کے پاس سے جو زبردست ہے حکمت والا۔

لِيُقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكِيْتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا أَخَاهِيْنَ

(یہ مدارس لئے تھی) تاکاٹ ڈالے بعضے کافروں کو، یا ان کو ذلیل کرے کہ پھریں نامراد۔

.128

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

تیر اختیار کچھ نہیں،

(سارا اختیار اللہ پاس ہے)

أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ ظَلِيمُونَ

یا ان کو توبہ دے یا انکو عذاب کرے، کہ وہ ناحق پر (ظام) ہیں۔

.129

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور اللہ کمال ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

بنجشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے،

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ بنجشے والامہربان ہے۔

.130

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْمُوا لَا تَأْكُلُوا أَلْرِبَوْا أَطْعَفًا مُضَدِّعَةً

اے ایمان والو! مت کھاؤ سود، دُونے پر دُونا،

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور ڈرواللہ سے، شاید تمہارا بھلا ہو۔

.131

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔

.132

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا شاید تم پر رحم ہو۔

.133

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ

اور دوڑو بخشش پر اپنے رب کی اور جنت پر جس کا پھیلاو ہے آسمان اور زمین،  
تیار ہوئی ہے واسطے پر ہیز گاروں کے۔

.134

<sup>فَلَّ</sup>الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الْسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِيمَيْنِ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

جو خرچ کئے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دبالتیت ہیں غصہ، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو،

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور اللہ چاہتا ہے نیکی والوں کو۔

.135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا إِلَذُنُوبِهِمْ

اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ، یا برا کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو،  
اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی۔

وَمَنْ يَغْفِرُ إِلَّا اللَّهُ

اور کون ہے گناہ بخشتaso اللہ کے؟

وَلَمْ يُصِرُّوا أَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور اڑنہ رہیں اپنے کئے پر جانتے (ہوئے)۔

أُولَئِكَ جَزَّ أُوْهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا

اُن کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے بہتی نہریں، رہ پڑے ان میں،

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

اور خوب مزدوری ہے (نیک) کام کرنے والوں کی۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

ہو (گزر) چکے ہیں تم سے آگے دستور (دور)، سو پھر و زمین میں تو دیکھو کیسا ہوا آخر جھٹلانے والوں کا۔

هَذَا إِبَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ڈر والوں کو۔

وَلَا تَهِنُو أَوْ لَا تَحْزَنُو أَوْ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور سست (دل شکستہ) نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

إِنْ يَمْسِسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

اگر تم نے زخم پایا تو وہ لوگ بھی پا چکے ہیں زخم ایسا ہی۔

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِهُنَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهْدَاءَ

اور یہ دن بدلتے لاتے ہیں ہم لوگوں میں اور اس واسطے کے معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے،

اور کرے بعضے تم میں شہید۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

اور اللہ چاہتا نہیں ناحق والوں کو۔

وَلِيُمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَفَرِينَ

اور اس واسطے کہ نکھارے (چھانٹ لے) اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے منکروں کو۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں (یو نہیں)،

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم کرے ثابت (قدم) رہنے والے۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتَّعُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ

اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی، اس کی ملاقات سے پہلے۔

فَقَدْ رَايْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

سواب دیکھاتم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔

وَمَا لَحَمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْرُّسُلُ

اور محمد تو ایک رسول ہے، ہو چکے پہلے اس سے بہتر رسول۔

أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ

پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا، تم پھر جاؤ گے اُلٹے پاؤں؟

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضِرَ اللَّهُ شَيْئًا

اور جو کوئی پھر جائے گا اُلٹے پاؤں، وہ نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ۔

وَسَيِّجُزِي أَلَّهُ الشَّكِيرِينَ

اور اللہ ثواب دے گا جملانے والوں (شکر گزاروں) کو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا يَأْذِنُ أَلَّهُ كَتَبًا مُؤْجَلاً

اور کوئی بھی مر نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے، لکھا ہوا وعدہ (وقت معین)۔

وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا، اس میں سے دیں گے اس کو

اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت کا، اس میں سے دیں گے اس کو،

وَسَنْجُزِي أَلَّهُ الشَّكِيرِينَ

اور ہم ثواب دیں گے احسان مانے والوں کو۔

وَكَائِينٌ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب۔

فَمَا وَهَنُوا إِلَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا أُسْتَكَانُوا

پھرنے ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، اور نہ سست ہوئے ہیں، نہ دب گئے ہیں۔

وَأَلَّهُ يُحِبُّ الْصَّابِرِينَ

اور اللہ چاہتا ہے ثابت (قدم) رہنے والوں کو۔

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا،

.145

.146

.147

رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا

کہ اے رب ہمارے! بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں،

وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفَرِينَ

اور ثابت رکھ ہمارے قدم اور مددے ہم کو منکر قوم پر۔

قَاتَلُهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَمُحْسِنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ

.148

پھر دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا بھی اور خوب ثواب آخرت کا۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور اللہ جانتا (محبوب رکھتا) ہے نیکی (کرنے) والوں کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ رُدُودَكُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ فَتَنَقْلِبُوا أَخْسِرِينَ

.149

اے ایمان والو! اگر تم کہا نو گے منکروں کا، تو تم کو پھیر دیں گے اُلٹے پاؤں، پھر جا پڑو گے نقصان میں۔

بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

.150

بلکہ اللہ تمہارا مد گار ہے اور اسکی مدد سب سے بہتر ہے۔

سَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْرَغَبُ بِهِمَا أَشَرَكُو أَبِاللَّهِ مَا لَمْ يُنِزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا

.151

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت،

اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جسکی اس نے سند نہیں اتنا ری۔

وَمَا وَلَهُمْ أَنَّا مُرْ

اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے،

وَبِئْسَ مَثُواي الظَّالِمِينَ

اور بُری بستی (بر اٹھ کانا) بے انصافوں کی۔

وَلَقَدْ صَدَقْتُمُ اللَّهَ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ<sup>ص</sup>

.152

اور اللہ تو سچ کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم لگے ان کو کاٹنے (قتل کرنے) اسکے حکم سے۔

حَقِّي إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمْ مَا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup>

جب تک کہ تم نے نامردی (ڈھیل) کی، اور کام میں جھگڑا اڑالا، اور بے حکمی کی،

بعد اس کے تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی (محبوب) چیز۔

مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ<sup>ج</sup>

کوئی تم میں چاہتا تھا دنیا، اور کوئی تم میں چاہتا تھا آخرت۔

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ<sup>ص</sup>

پھر تم کو الٹ (پسپا کر) دیاں پر سے، اس واسطے کہ تم کو آزمائے۔

وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>ص</sup>

اور وہ تم کو معاف کر چکا۔ اور اللہ فضل رکھتا ہے ایمان والوں پر۔

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَكُمْ

.153

جب تم چڑھے (بھاگے) جاتے تھے اور پیچھے نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکارتا تھا تم کو پچھاڑی میں،

فَأَثْبِكُمْ غَمَّا بِغَمٍ لَكَيْلَا تَحْزَنُو أَعْلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصْبَكُمْ

پھر تم کو تنگ کیا بد لہ تمہارے تنگ کرنے کا،

تو غم نہ کھایا کرو جو ہاتھ سے (چھن) جائے اور جو سامنے آئے (مل جائے)۔

وَاللَّهُ خَيْرُ هَمَّا تَعْمَلُونَ

اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی۔

لَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَعَسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ

پھر تم پر اتاری تنگی کے بعد اونگھ، کہ گھیر رہی تھی تم میں بعضوں کو،

وَطَآئِفَةً قَدْ أَهْمَمْتُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَلِّ أَجْهَلِيَّةً

اور بعضوں کو فکر پڑا تھا اپنے جی (جان) کا، خیال کرتے تھے اللہ پر، جھوٹے خیال جاہلوں کے (سے)۔

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ أَلَّا مُرِّ مِنْ شَيْءٍ

کہتے تھے (کیا) کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ؟

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ مُكْلِمُ لِلَّهِ

تو کہہ۔ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ۔

يُكْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبَدِّلُونَ لَكَ

اپنے جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے۔

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ أَلَّا مُرِّ شَيْءٌ مَا قُتِلَنَا هَهُنَا

کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ۔

صل

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمْ

تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھا تھا مارے جانا اپنے پڑا اور پر۔

صل

وَلِيَبَتَّلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَعْمَحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دل میں ہے،

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور اللہ کو معلوم ہے جی (دل) کی بات۔

صل

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْجَمِيعَانِ إِنَّمَا أَسْتَرَهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَعْرِضُ مَا كَسَبُوا

.155

جو لوگ تم میں ہٹ گئے جس دن بھڑیں دو فوجیں،

سو ان کو ڈگا (ڈگما) دیا شیطان نے کچھ ان کے گناہ کی شامت سے۔

وَلَقَدْ عَفَأَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

اور ان کو بخش چکا اللہ پیشک اللہ بخشنشے والا ہے تحمل رکھتا۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا أَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

.156

اے ایمان والو! تم نہ ہوان کی طرح جو منکر ہوئے،

وَقَالُوا إِلَّا هُنَّا مُؤْمِنُونَ أَوْ كَانُوا أُغْرِيَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں،

کہ اگر رہتے ہم پاس نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُذَا لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

اور اللہ اس سے ڈالے افسوس (حرست) ان کے دل میں۔

وَاللَّهُ يُحِبِّي وَيُمِيِّثُ

اور اللہ ہے جلاتا (زندہ رکھتا) اور مارتا۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔

وَلِئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمْغَفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

.157

اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔

وَلِئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُخْشِرُونَ

.158

اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، اللہ ہی پاس اکھٹے ہو گے۔

فِيمَا أَرْحَمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنَتَهُمْ

.159

سو کچھ اللہ کی مہرب (رحمت) ہے، جو تو زم دل ملاں کو۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظَالًا غَلِيظَ الْقُلُبِ لَأَنْفَضْتُو أَمِنْ حَوْلِكَ

اور اگر تو ہوتا سخت گو (مزاج) اور سخت دل تو منتشر ہو جاتے تیرے گردے۔

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاءُ رَبُّهُمْ فِي الْأَمْرِ

سو تو ان کو معاف کر، اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورت لے کام میں۔

فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

پھر جب ٹھہر (پختہ فیصلہ کر) چکا تو بھروسہ سا کر اللہ پر۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

اللہ چاہتا ہے توکل والوں کو۔

إِنَّ يَنْصُرُ كُمْ أَلَّا فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ<sup>ص</sup>

اگر اللہ تم کو مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو گا۔

وَإِنْ يَجْدُلْكُمْ فَمَنْ ذَا أَلَّا نِي يَنْصُرُ كُمْ مِنْ بَعْدِهِ<sup>ق</sup>

اور جو وہ تم کو چھوڑ دے گا پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور اللہ پر بھروسہ (کرنا) چاہئے مسلمانوں کو۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمْ

اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے،

وَمَنْ يَعْلَمْ يَأْتِ بِمَا غَلَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور جو کوئی چھپائے گا وہ لائے گا اپنا چھپایا دن قیامت کے۔

لُّمَّا تُوَفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

پھر پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

.160

.161

.162

أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ

کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا، برابر ہے اسکے جو کمالاً یا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ۔

وَبِئْسَ الْمُصِيرُ

اور کیا بڑی جگہ پہنچا۔

هُمْ ذَرَجَتُ عِنْدَ اللَّهِ

لوگ کئی درجے ہیں اللہ کے ہاں۔

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہیں۔

.163

لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا،

يَتَلَوُ أَعْلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرِزَكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ

پڑھتا ہے اُن پر آیتیں اس کی اور سنوارتا ہے ان کو، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات (حکمت)۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور وہ تو پہلے سے صریح (بالکل) گمراہ تھے۔

أَوَلَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا

کیا جس وقت تم کو پہنچی ایک تکلیف، کہ تم پہنچا چکے ہو (دشمنوں کو) اس کے دو برابر (دونا)،

کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟

.165

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ

تو کہہ، یہ آئی تم کو اپنی (بھی) طرف سے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمَا أَصَبَّكُمْ يَوْمَ الْتَّقْوَىٰ جَمْعًا فَإِذَا دِنَّ اللَّهُ

.166

اور جو کچھ تم کو سامنے آیا (نقضان پہنچا) جس دن بھڑیں دونوں فوجیں، سوال اللہ کے حکم سے،

وَلِيَعْلَمَ أَمْوَالُ مُؤْمِنِينَ

اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

.167

اور تا (کہ) معلوم کرے انکو جو منافق تھے۔

وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أُدْفَعُوا

اور کہاں کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یاد فع کرو دشمن،

قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَبْعَتَنَا

بولے، (اگر) ہم کو معلوم ہو لڑائی تو تمہارا ساتھ کریں (چلتے)۔

هُمْ لِلْكُفَّارِ يَوْمَئِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ

وہ لوگ اس دن گفرنگ کی طرف نزدیک ہیں ایمان سے۔

يَقُولُونَ بِأَنَّهُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ

کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔

الَّذِينَ قَالُوا إِلَّا خُوَانُهُمْ وَقَدْ عُذْلُوا أَطَاغُونَا مَا قُتِلُوا أَ

.168

وہ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ رہے ہیں (گروں میں)، اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے،

قُلْ فَادْرَأُوهُمْ أَغْنَى نَفْسِكُمْ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

تو کہہ اب ہٹا (کرد کھا) دے جو اپنے اوپر سے موت، اگر تم سچے ہو۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

.169

اور ٹونہ سمجھ، جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں، مُردے۔

بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے۔

فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

.170

خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے،

وَيَسْتَبَشِّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

اور خوش وقت (مسلمَن) ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے ان میں پیچھے سے۔

أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اس واسطے کہ نہ ڈر رہے اُن پر، نہ اُن کو غم ہے۔

.171

يَسْتَبَشِّرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

خوش وقت (مسلمان) ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے،  
اور اس سے کہ اللہ ضالع نہیں کرتا مزدوری (اجر) ایمان والوں کی۔

.172

الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ

جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، بعد اس کے کہ ان میں پڑچا تھا کٹاؤ (زنخ)۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَمْنِيمُ وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا

جو ان میں نیک ہیں اور پر ہیز گار ان کو ثواب بڑا ہے۔

.173

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لِكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَأَدُهُمْ إِيمَانًا

جن کو کہا لوگوں نے کہ انہوں نے جمع کیا (بہت) اساب تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے خطرہ (ڈرا) کرو،  
پھر ان کو زیادہ آیا ایمان۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعَمْ أَلَا كِيلُ

اور بولے بس ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے۔

.174

فَإِنَّ قَلْبَهُمْ أَلِّيْنَعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسِسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا أَرْضُوا نَالَ اللَّهُ

پھر چلے آئے، اللہ کے احسان سے اور فضل سے کچھ نہ پہنچی برائی، اور چلے اللہ کی رضا پر،

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الْشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ

یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو،

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي الْكُفَرِ

اور تجھ کو غم نہ آئے ان لوگوں سے جو دوڑ کر لگتے ہیں کفر کرنے۔

إِنَّهُمْ لَنْ يَصْرُوْ أَلْلَهَ شَيْئًا

وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں۔ اور ان کو بڑی مار (عذاب عظیم) ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَشْتَرُواْ الْكُفَرَ بِالْإِيمَنِ لَنْ يَصْرُوْ أَلْلَهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جنہوں نے خرید کیا کفر ایمان کے بد لے، وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور انکو دکھ کی مار (عذاب) ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا نُفْسِمُ

اور یہ نہ سمجھیں منکر کہ ہم جو فرصت دیتے ہیں انکو، کچھ بھلا ہے اُنکے حق میں۔

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَنْذَدِّأُ إِنَّمَا

ہم تو فر صت دیتے ہیں ان کو تابڑھے جائیں گناہ میں،

وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

اور ان کو ذلت کی مار ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدْنَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْثَمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمْيِيزَ الْجَبِيلَ مِنَ الطَّيْبِ<sup>صل</sup>

.179

اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے گا مسلمانوں کو جس طرح پر تم ہو، جب تک جد انه کرے ناپاک کو پاک سے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ<sup>صل</sup>

اور اللہ یوں نہیں کہ تم کو خبر دے غیب کی، اور لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسکو چاہے۔

فَإِمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>صل</sup>

سو تم یقین لا و اللہ پر اور اس کے رسولوں پر،

وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اور اگر تم یقین پر رہو اور پر ہیز گاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَيْخُلُونَ بِمَا إِتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ الْأَهْمَمِ<sup>صل</sup>

.180

اور نہ تم چھین جو لوگ بخل کرتے ہیں ایک چیز پر کہ اللہ نے انکو دی ہے اپنے فضل سے،

کہ یہ (بخل) بہتر ہے اُنکے حق میں،

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ<sup>صل</sup>

بلکہ یہ بُرا ہے اُنکے واسطے،

سَيِّطَرُوْقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ<sup>صل</sup>

آگے طوق پڑے گا جس پر بخل کیا تھا، دن قیامت کے۔

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

اور اللہ دارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو کرتے ہو، سو جانتا ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

اور اللہ نے سنی انکی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مال دار۔

سَكُنْتُ بِمَا قَالُوا

اب لکھ رکھیں گے ہم انکی بات،

وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُو قُوَّا عَذَابَ الْحَرِيقِ

اور جو خون کئے ہیں نبیوں کے ناحق، اور کہیں گے چکھو جلن کی مار۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ

یہ بدله اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں بھیجا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِهْدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ الْنَّاسُ

وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے

کہ ہم یقین نہ کریں کسی رسول کو جب تک نہ لائے ہم پاس ایک نیاز جس کو کھا جائے آگ۔

فُلْ قَدْ جَاءَكُمْ مُسْلِمٌ مِنْ قَاتِلِ إِلَيْسَتِ وَبِاللَّذِي قُتِلَ

تو کہہ تم میں آچکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے کہا،

فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

پھر انکو کیوں مارا تم نے اگر تم سچ ہو۔

.181

.182

.183

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبِيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنْبِرِ

پھر اگر یہ تجھ کو جھٹائیں تو آگے تجھ سے جھٹائے گئے بہت رسول، جو لائے نشانیاں اور ورق اور کتاب چکتی۔

مُلُّ نَفِيسٍ ذَآيَةً أَمْوَاتٍ

ہرجی کو چکھنی ہے موت،

وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجْوَارَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور تم کو پورے بدے ملیں گے، دن قیامت کے۔

فَمَنْ زُحِّرَ عَنِ الْثَّابِرِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

پھر جس کو سر کا دیا آگ سے، اور داخل کیا جنت میں، اس کا کام بنا۔

وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَّعُ الْغُرُورِ

اور دنیا کی زندگی تو بھی ہے دغا کی جنس۔

لَئِنْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

البته تم آزمائے جاؤ گے مال سے اور جان سے،

وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنِيَّا كَثِيرًا

اور البته سنو گے اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے، بد گوئی بہت،

وَإِنْ تَصْدِرُو أَوْتَتَقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ

اور اگر تم ٹھیرے رہو اور پرہیز گاری کرو تو یہ ہمت کے کام ہیں۔

.187

وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُونَهُ

اور جب اللہ نے اقرار لیا کتاب والوں سے، کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں پاس اور نہ چھپاؤ گے،

فَنَبَدُوْهُ وَرَأَءُهُوْرِهِمْ وَأَشْتَرُوْهُ أَبِيهِ شَمَنًا قَلِيلًا

پھر چینک دیا وہ اقرار اپنی بیٹھ کے پیچھے، اور خرید کیا اس کے بد لے مول ٿھوڑا۔

فِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

سو کیا بری خرید کرتے ہیں۔

.188

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجْهُونَ أَنَّ يُعَذَّبُوْهُمْ أَمَّا لَمْ يَفْعَلُواْ

تونہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر،

فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

سونہ جان کہ وہ خلاص ہیں عذاب سے۔ اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

.189

وَلِلَّهِ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ کو ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

.190

إِنَّ فِي خَلْقِ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الْمُبْلِغُ

آسمان اور زمین کا بنانا، رات اور دن کا بدلتے آنا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔

.191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور کروٹ پر لیٹے،

وَيَنْقُسُ كُرُونَ فِي خَلْقِ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور دھیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِطِلَّ أَسْبَحْنَاهُ فَقِنَا عَذَابَ أَنَّا رِ

اے رب ہمارے! تو نے یہ عبث نہیں بنایا۔ تو پاک ہے عیب سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْأَنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ<sup>ص</sup>

.192

اے رب ہمارے! جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، سواس کو رسا کیا۔ اور گنہگاروں کا کوئی نہیں مدد گار۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ إِيمَانُ أُبَرِّكُمْ قَائِمَنَا<sup>ج</sup>

.193

اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، کہ ایمان لا اپنے رب پر،

سو ہم ایمان لائے،

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَكْبَارِ

اے رب ہمارے اب بخش گناہ ہمارے اور اتار ہماری برائیاں اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔

رَبَّنَا وَءَاهِنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى مُرْسِلِكَ

.194

اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ دیا تو نے اپنے رسولوں کے ہاتھ۔

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ<sup>ف</sup>

اور رسولانہ کر ہم کو قیامت کے دن۔ تحقیق تو خلاف نہیں کرتا وعدہ۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

.195

پھر قبول کی اُن کی دعا ان کے رب نے،

أَيْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِيلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلٍ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا

پھر جو لوگ وطن سے چھوٹے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں،  
اور لڑے اور مارے گئے ہیں،

لَا كَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ

اتاروں گاؤں سے برا بیاں اُن کی اور داخل کروں گاباغوں میں جن کے نیچے بہتی ندیاں۔

ثُوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَكُمْ حُسْنُ الْثَوَابِ

بدلا اللہ کے ہاں سے۔ اور اللہ ہی کے ہاں ہے اچھا بدله۔

.196

لَا يَعْرَنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ

ٹونہ بہک اس پر کہ آتے جاتے ہیں کافر شہروں میں۔

.197

مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے،

وَبِئْسَ الْمِهَادُ

اور کیا بڑی تیاری ہے۔

لَكِنَ الَّذِينَ أَنْقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيهِنَ فِيهَا

لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کو باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ندیاں، رہ پڑے ان میں،

<sup>فَلَمَّا</sup> نُزِّلَ الْمِنْ وَعِنْدِ اللَّهِ

مہمانی اللہ کے ہاں سے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّاتِكَارِ

اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کو۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

اور کتاب والوں میں بعضے وہ بھی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو، اور جو اتر اتمہاری طرف اور جو اتر ان کی طرف،

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرِونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شَمَّانًا قَلِيلًا

ڈرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خرید کرتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا۔

<sup>فَلَمَّا</sup> أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وہ جو ہیں، ان کو ان کی مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

بیشک اللہ ثابت (جلد) لیتا ہے حساب۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَصْدِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاءِبُطُوا

اے ایمان والو! ثابت رہو، اور مقابلے میں مضبوطی کرو اور لگے رہو۔

وَاتَّقُواْ أَلٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور ڈرتے رہو اللہ سے، شاید تم مراد کو پہنچو۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)

Email:

quran4u\_com@yahoo.com